



سوال

(515) سورۃ یسین قرآن کا دل ہے؟

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ایک عالم دین نے دوران خطبہ سورۃ یسین کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ سورت قرآن مجید کا دل ہے، اس کی تحقیق درکار ہے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

فضائل قرآن کے سلسلہ میں بعض روایات ہمارے ہاں بہت مشہور ہیں لیکن استنادی طور پر ان کی حیثیت بہت کمزور ہے، اس لئے ہمارے خطباء کو چاہیے کہ وہ صحیح روایات سے فضائل و احکام بیان کریں۔

سورۃ یسین کے فضائل میں درج ذیل حدیث بیان کی جاتی ہے: ”ہرچیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورۃ یسین ہے جو شخص ایک مرتبہ سورۃ یسین پڑھتا ہے تو اس کی قرأت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لئے دس مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔“ [1]

یہ روایت ہارون ابو محمد کے مجہول ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے، چنانچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ خود ہی اس روایت کے بعد فرماتے ہیں: ”ہارون ابو محمد ایک مجہول شخص ہے۔“

علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو موضوع قرار دیا ہے۔ [2]

سورۃ یسین کے فضائل میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا درج ذیل قول صحیح ہے، آپ فرماتے ہیں: ”جو شخص صبح کے وقت پڑھے تو اسے شام تک آسانی ہوگی اور جو شخص رات کے وقت اس کی تلاوت کرے تو اسے صبح تک سہولت میسر ہوگی۔“ [3]

اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص رات دن سورۃ یسین پڑھنے کا معمول اختیار کرتا ہے تو اس کی زندگی آرام و راحت اور سہولت سے گزرے گی، یقیناً جو شخص اس کے معانی پر غور و فکر کرے گا، اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا، اس کا اللہ پر اعتماد اور یقین بڑھے گا جو دنیا میں آرام و سکون کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں آرام و سکون عطا فرمائے۔ آمین!

[1] ترمذی، فضائل القرآن: ۲۸۸۶۔

[2] الضعیفہ ص ۳۱۲ ج ۱۔

[3] دارمی ص ۳۸۴ ج ۱۔

هذا ما عندي والتداً علم بالصواب

فتاویٰ اصحاب الحدیث

جلد 4 - صفحہ نمبر: 450

محدث فتویٰ